

نسلی مساوات کو فروغ دینے کے لیے موجودہ اور مجوزہ اقدامات

ہانگ کانگ آبرویٹری

ہانگ کانگ آبرویٹری (HKO) محکمہ موسمیات کا مقصد عوام الناس کے لیے علم پیمائش و وزن کی اعلیٰ معیار کی خدمات مہیا کرنا ہے اور خصوصی صارفین کو سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بحری جہاز رانی اور ہوا بازی کے شعبوں میں خدمات کی فراہمی شامل ہے۔ HKO کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ عوام الناس میں نسلی پس منظر سے قطع نظر، خدمات تک تمام لوگوں کی یکساں رسائی ہو۔

● متعلقہ خدمات HKO کا کام، (a) موسم کی پیش گوئی فراہم کرنا اور موسم کے خطرات سے متعلق انتباہ جاری کرنا؛ (b) اسکے علاوہ ہانگ کانگ میں ماحولیاتی تابکاری کی سطح کے بارے میں معلومات فراہم کرنے؛ اور (c) ہانگ کانگ کے معیاری وقت کو برقرار رکھنا اور جیو فزیکل، سمندری، فلکیات سے متعلق اور ماحولیاتی معلومات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔

● موجودہ اقدامات HKO کی موسم کی اطلاع دینے اور دیگر خدمات کے متعلق معلومات HKO کی ویب سائٹ پر ہانگ کانگ کی دو سرکاری زبانوں (یعنی چینی اور انگریزی) میں دستیاب ہیں، اسکے علاوہ خاص موسمیاتی ویب سائٹ کا انتظام بھی کیا گیا ہے تاکہ موسم کے بارے میں بنیادی معلومات مختلف زبانوں¹ میں لوگوں تک پہنچائی جاسکیں۔

● معلوماتی اور تعلیمی کتابچے / دستی اشتہار بھی دونوں سرکاری زبانوں میں عام لوگوں میں تقسیم کے لیے شائع ہوتے ہیں۔ اسکے علاوہ HKO نے موسم کے خطرات سے آگاہ کرنے کیلئے ("[ہانگ کانگ میں طوفانی آندھی کے انتباہ کے سگنلز](#)"² اور "[طوفانی بارشوں سے متعلق انتباہی نظام](#)"³) اور ("[تیز مُون سُون کی ہواؤں کے سگنل](#)"⁴) کے نام سے تین کتابچوں کا ترجمہ مختلف زبانوں¹ میں کیا ہے، یہ کتابچے HKO کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

¹ترجمہ کی گئی زبانیں یہ ہیں، ہندی، نیپالی، اردو، تھائی، بھاسا انڈونیشیا، تگالوگ، پنجابی اور ویتنامی۔

² اشاعت نمبر 33

³ اشاعت نمبر 20

⁴ اشاعت نمبر 35

- **HKO** وقتاً فوقتاً مختلف نسلوں کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے نقطہ نظر کے ساتھ ہماری خدمات کا جائزہ لے گا۔ مستقبل کے کام کا تعین
- **HKO** آئندہ برسوں میں مختلف نسلوں کی زبانوں میں مزید موسم کے انتہائی کتابچے / دستی اشتہار فراہم کرے گا۔ اضافی اقدامات لیے گئے / لیے جانے چاہیے
- **HKO** ضرورت کے مطابق مختلف نسلوں کے لوگوں کے لیے تعلیمی سرگرمیاں منعقد کرے گا، جیسے **HKO** کا دورہ کرنا

سوالات کے لیے، براہ کرم مندرجہ ذیل چینلز کے ذریعہ *Sano YIU*، اسسٹنٹ ڈیپارٹمنٹ سیکرٹری (جنرل) 2 سے رابطہ کریں:-

ٹیلیفون : 2926 8039
 فیکس : 2311 9448
 ای میل : mailbox@hko.gov.hk
 ڈاک : Hong Kong Observatory
 134A Nathan Road
 Kowloon
 Hong Kong

ہانگ کانگ آبزرویٹری
 جون 2021